



ازالدين عند الله اسلام

لا اله الا الله محمد رسول الله

AHMADIYYA GAZETTE (Canada)

P.O. Box 1183, Station "B", Mississauga, Ontario

274-3735

275-4145

Editor: Mubarak A. Khan IX

SEPTEMBER - 1976

NO: IX
Sub. Editor: Zakaria Virke

INAUGURAL ADDRESS OF Hazrat Abu Bakr

Prophet Muhammad (s.a.w.a) is reported to have passed away on 8th June 632. Monday afternoon (little after mid-day) The body was committed to earth the next day, when Hazrat Abu Bakr was elected as Caliph by the general consensus of the people.

When funeral was over, the court of the great Moaque was crowded with mourners, Abu Bakr ascended the pulpit, sitting down, was acknowledged the Caliph by acclamation. Then he rose and delivered the inaugural address:-

- 1) Oh people Now I am ruler over you albeit not the best among you.
- 2) If I do well, support me, if ill then set me right
- 3) Follow the true, wherein is faithfulness eschew the False wherein is treachery
- 4) The weaker amongst you shall be as the stronger with me, until I shall have redressed his wrong and the stronger shall be as the weaker until, if the Lord will I shall have taken from him that which he hath wrested.
- 5) Leave not off to fight in the ways of the Lord, whosoever leaveth off, him verily shall the Lord abase.
- 6) Obey me as I obey the Lord and his Prophet, wherein I disobey obey me not. Now arise to prayer and the Lord be with you.

GRAND OPENING OF ANOTHER MOSQUE IN EUROPE

Goteborg (Sweden) Hazrat Mirza Nasir Ahmad, the Supreme Head of of the Ahmadiyya Movement presided over the ceremony of the grand opening of the first mosque ever built in Sweden. Besides many Ahmadis living in different cities of Europe, a huge number of people of Goteborg showed up to see themselves this austere ceremony. About 600 people were present on this occasion. Press, television and Radio gave a wide coverage to this event. May Allah accept the humble efforts of poor Ahmadis tiring day and night to raise His glorious name in every part of the continent.

Health of Hazrat Khalifa-tul-Masih III : According to the reports reaching here in Toronto, the Supreme Head of the Ahmadiyya Movement Hazrat Mirza Nasir Ahmad who is nowadays staying in London, England is enjoying sound health with the grace of Allah.

Earlier the Spiritual Leader of more than 10 millions Muslims opened the first mosque of Sweden for public worship on August 20/1976. This occasion was widely covered by Radio, television and the press. Well-over 600 people attended this ceremony including many Europeans.

On the monthly meeting of our Toronto Jamaat, one of the distinguished speaker was Major Shm im Ahmad, deputy Ameer Karachi Jamaat. Major Shamim Ahmad was very lucky to take part in this ceremony and accordingly he gave a very moving and exciting eye-witness account of the whole occasion.

It has been learnt that Hazrat later toured all the Ahmadiyya Missions of Europe namely Stockholm, Hamburg, Frankfurt, Zurich, Amsterdam and arrived back in London on September 14/1976. He is expected to stay until the end of the month of Ramadhan.

Exhibition of the translations of Holy Quran in Nigeria

A report has published in daily Al-Fazl of Rabwah that a great exhibition was held in Kano on July 20 and almost 30 translations and scripts of Holy Quran were displayed. The Ameer and Missionary of Nigeria Maulana Muhammad Ajmal Shahid has been rewarded by Allah to continue his efforts for disseminating the message of Quran through this method. Thousands of people visited the site of exhibition and many more saw it through television.

PAKISTAN DAY CELEBRATED IN RABWAH

Rabwah Aug 14. The Pakistan day was celebrated in Rabwah in its usual simple manner. In the morning the congregational prayers were offered in all the mosques of Rabwah. Pakistan flag was hoisted on the major buildings of Rabwah. The display of lights and tournaments were terminated on the express orders of Government of Pakistan due to the devastating floods conditions all over Pakistan.

FLOODS AROUND RABWAH

Second time in recent months the water level rose above its average in the Chenab River and the road near Ahmadnagar was fully covered with flood water. Consequently the traffic between Rabwah and Sargodha was discontinued. In the surroundings areas of Rabwah the case has not been too bad. In the vicinity of Dar-u-sadr Gharbi and that of Factory Area the flood water reached causing little damage to the buildings. Otherwise all the localities of this international city have been safe through sheer mercy of almighty Allah. There were no trains between Rabwah and the provincial headquarter Lahore in the 2nd week of August.

The floods have caused striking damage to the Pakistan economy. Water levels in many rivers and lakes have not receded. According to some reports the Government declared emergency in Punjab and army was called in at many places to help out the people. Cities like Sialkot, Narowal, Gujrat, Lahore Gujranwala have severely been hit by the floods. In Sindh many cities like Khairpur, Larkana, Hyderabad have nothing to keep after the floods. There is immense devastation all around the country. This is a continuous suffering for

the people of Pakistan. Sometime in 1973 and sometime in 1974 each time bigger than the previous one. All the Ahmadi brothers are urged to please pray for their homeland day and night so that the days of sufferings may come to a quick end. Hazrat Ameerul Momineen has continuously been praying.

AHMADIYYA COMMUNITY IN CANADA

Births: We are pleased to announce that following of our brothers were blessed with daughters :

Br. Khawarul Haq Aagha of Montreal

Br. Ch. Muhammad Aslam of Mississauga

We extend our heartfelt congratulations to the above brothers . May Allah grant the new born babies long and healthy life Amen.

VISTITORS TO THE TORONTO MISSION :

Following brothers of our Movement visited Toronto in the month of July 1976.

- 1) Dr. Karimullah Zervi of Shiraz , Iran
- 2) Dr. M. Ishaq Khalil Zurich, Switzerland
- 3) Dr. Major(Ret'd) Shahnawaz Khan of London, England
- 4) Br. Hassan Muhammad Khan Aarif, Deputy Director Foreign Missions still staying with his sons in Toronto.

The following brothers visited our Jamaat in the month of August 1976.

- 1) Dr. Salah-u-din Shams M.D. of Zion, U.S.A.
- 2) Major(Ret'd) Shamim Ahmad deputy Ameer Karachi Jamaat Provincial Ameer
- 3) Mirza Abdul Haq , Ameer Sargodha Jamaat, and a noted lawyer of our Pakistan Jamaat.
- 4) Malik Saifur Rahman, the Grand Mufti of our Movement has since left Toronto in August and reportedly arrived safely back in Rabwah.

COMPUTERIZED LISTING OF MEMBERS

Brothers will be pleased to know that Ahmadiyya Gazette will soon be starting its computerized mailing list. One of the dedicated members of our Movement Br. Mubarak Ahmad Qazi has in this respect very carefully written a computer programme which has in the meantime been successfully run on the computer. The data which was provided for processing shows heart warming results. Next month we will inshallah use these computer produced mailing lists. If you receive your mailing sticker typed or handwritten be sure we do not have your correct address. At the same time we will be producing a 'directory' of our Jamaat in Canada. If you want to include your name in the directory, don't wait for a move from our side. Get the required form next month in the Gazette and mail it promptly.

Eid-ul-Fitr SEPTEMBER 25th

The Eid-ul-Fitr will inshallah be celebrated in Toronto on Saturday Sep 25th. Following is the Eid-programme:

Eid- prafer location to be served	10 a.m.
Fitrana	Y.M.C.A. Room # 7
	light meal around noon time
	ONE DOLLAR, Eid Fund \$1/-on every earning member. Pay before prayer.

please do not forget to bring your prayer-rugs. (Jai-Numazi

E I D - M U B A R A K
to all the Ahmadiis living in Canada & U.S.A

EARLIEST BIOGRAPHERS OF PROPHET MUHAMMAD

Towards the end of the first century of the Hegira there is ground for believing that the general practise first commenced of recording the Muhammadan tradition. One of the person known to have been employed in the task was " ZOHRI ", who died a.h. 124 at age 72. It is stated that both he and his master ORWA composed regular biographies of prophet Muhammad. There is no work by Zohri extant, but he is largely quoted by early biographers.

Two others are mentioned as having written biographies of Muhammad in 2nd century namely MUSA IBN ACKBA and ABU MUSHAR. Neither of their works is extant, but the later is extensively referred to by Tabari.

To these may be added, as no longer available the histories of ABU ISHAC, who died A. H. 188 and MADAINI, who lived to the beginning of the 3rd century. Though later published many works on Prophet, not one of them is now known to exist.

The works of the following 4 others is more or less available:

(1) MUHAMMAD IBN ISHAC - He is the earliest biographer of whom by extensive remains have reached us. He died in the year of hegira 151 (around 733) His work was published under the auspices and influence of the Abbaside Princes and was in fact composed for the use of Caliph al-Mansur. No copy of Ibn Ishac's biography, in the form of its original composition, is now available. But the material have been so extensively adopted by Ibn Hisham, that we have probably not lost much by the absence of the work itself.

(2) IBN - HISHAM : Ibn Hisham who died a.h. 213 made the labours of Ibn Ishac the basis of his biography of Muhammad. Copies of this work are extant in its original form and are known to the European historians of the Prophet. His full name was ABU MUHAMMAD ABD AL MALIK IBN HISHAM the author of 'Sirat-al-Rasul' i.e. biography of the Prophet. His native place was old Cairo. His death occurred in old Cairo, A.H. 213 (around 828-9) He drew up the history of the prophet from Ibn Ishac's work entitled " AL MAGHAZI WAL SIAR " i.e. The wars and life Muhammad. The biography of Ibn Hisham is called Sirat ibn Hisham i.e. The biography of Muhammad by ibn Hisham

The arrangement and composition of ibn Hisham are careful, if not elaborate. The tradition are well classified. An abridgement of ibn Hisham's work was made at Damascus A.H. 707 (AD 1307) by one Ahmad ibn Ibrahim.

(3) WACKIDI - Abu Abadullah Muhammad ibn Omar al Wackidi was born at Medina about the year of the hegira 129 or 130 and died ah 207. He enjoyed the patronage of Abbaside, in later days appointed Qazi of Baghdad. Wackidi was a man eminent for learning and the author of some well-known works on the conquest of Moslems - his works were vast and voluminous.

His KITAB-AL-REDDA, contains an account of apostasy of the Arabs on the death of the Prophet (his secretary - Muhammad ibn Sad - delivered traditional information on his authority.) He held the post of Qazi in the eastern quarter of Baghdad. Al-Mamun testified a high respect for him and treated him with marked honour.

(4) SAAD - Muhammad ibn Saad ibn Mani was a man of highest talents, merit and eminence. He lived with WACKIDI in the character of a Secretary and for this reason became known by the appellation Katib-al-Wackidi (secretary of Wackidi).

He composed an excellent work in 15 volumes on the different classes (TARICAT) of Muhammad's companions.

It contains also a history of the Caliphs brought down to his own time. He left also a smaller Tabakat. His character as a veracious and trustworthy historian is universally admitted. At the age of 62 he died at Baghdad A.H. 230(ad 844)

The first volume has been preserved to us in an undoubtedly genuine form. It contains the SIRAT or Biography of Muhammad. Copy of this invaluable volume was discovered in the library of MOZUFFAR HUSAIN KHAN AT Cawnpore India. The title of the work pasted over purports to be

The first volume of the (larger history of Muhammad and the several classes of his companions) composed by Imam and Hafiz Abu Muhammad ibn Saad the secretary of Wackidi

(5) T A B A R I - Abu Jafar ibn Jarir al Tabari flourished in the later part of the 3rd century of Moslem era. He was born AH224 (AD 838) at AMUL in Tabrestan and died at Baghdad AH 310(AD 923) Tabari composed annals not only of Muhammad's life but of the progress of Islam. The Arabic original of his book was translated into Latin by KOSENGARTEN so long ago as 1831. Dr Sprenger is said to have found the portion of the long lost manuscript at Lucknow, India.

Tabari is called by Gibbon in the book decline and fall of roman empire' as the LIVY of the Arabians.

(extracted by Zakaria Virke from Sir William Muir's famous book Life of Muhammad vol I page lxxxix to ci . This source book is available at Robarts Library of University of Toronto)

.....

ENGLISH TRANSLATIONS OF HOLY QURAN

We reproduce hereunder a list of English translations given by Dr. S. Abdul Latif in his translation of Holy Quran. This list, in our opinion, is certainly not a complete list of all the translations in English language. We would appreciate profoundly if any Ahmadi brother could provide some more names in this list.

- | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Alexander Ross - 1649 | 2. | George Sale 1734 |
| 3. | J M. Rodwell 1861 | 4. | E. H. Palmer 1880 |
| 5. | Abdul Hakim 1905 | 6. | Mirza Abul Fazal 1910 |
| 7. | Muhammad Ali 1917 | 8. | Ghulam Sarwar 1929 |
| 9. | M. Pickthall 1930 | 10. | A. Yusuf Ali 1934 |
| 11. | Richard Bell 1937 | (in chronological order) | |
| 12. | A. J. Arberry 1955 | (Ahmadi translator) | |
| 13. | Sher Ali 1955 | Iraqi born | |
| 14. | N. J. Dawood 1956 | (famous editor of Sidke-jadid) | |
| 15. | A. M. Daryabadi 1957 | | |
| 16. | Mir Ahmad Ali 1964 | | |
| 17. | S. A. Latif 1968 | (in chronological order) | |
| 18. | Zafrullah Khan 1971 | (in paragraphs) | |



Ahmadiyya Gazette is the monthly organ of Ahmadiyya Movement in Islam Canada For free literature on Islam please write to P. O. Box 1183, Station F, Mississauga We will be pleased to answer your queries about Islam and Ahmadiyyat.

بلا تبصرہ حنیف - از علم اقبال یونس خاں - ٹورنٹو

ایشیائی ممالک میں روز وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں ان کے نام معلوم کرنے کیلئے صحیح کا اخبار دیکھنا ضروری ہوتا ہے ان حالات میں وزراء تو ہر گھنٹے ہی ادلتے بدلتے رہتے ہیں کوئی آریا ہے تو کوئی تو لیہ سے آنکھیں پونچھا جا رہا ہے یہ ٹریفک اتنی تیز ہے کہ اب کچھ سمجھدار ایشیاء کے ممالک مغرب سے سوڈ پر قرض لے کر ٹریفک لائٹ لگوانے پر سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں

ہمارا ملک پاکستان بھی روز بروز ترقی کرنا دو قدم آگے اور تین قدم آگے دوڑنا چاہتا جا رہا ہے اب ترقی کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ عجیب نہیں کہ ان آئے اور جانے والے مشوروں اور ان کے نوٹوں کیلئے جمیو سیٹ چلنے لگیں

مگر جناب پاکستان کا ایک وزیر عام وزیروں سے بالکل مختلف ہے چہرہ نور سے دم دمانا، جسم چھتا رہتا ہے دائرہ کی گھنڈاٹ ایسی ہے کہ سردار لوگ بھی شرمنا جائے ہیں ترقی، پلڈو خالص گھی تورمہ باقر خانی تلعفی کسی بالوشاہی پستہ بادام دینا نوش کر کے ماشاء اللہ صنت ایسی کہ بیچو لو پہلوان کے مانند ان والے بھی ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور ہو جائے ہیں ہمارے اس وزیر کو بیچو لوں میں سے انکوور بہت پسند ہے اور وہ بھی رہتی حالت میں اور چونکہ صنت کی سیٹ پہلے سے بند کر دالی ہے اس لئے ایشیائی شراب سے اسی دنیا میں لطف اندوز ہونے کا شرف حاصل ہے ہمارا یہ سردار بہار وزیر اردو اتنی پیاری بولتا ہے جیسے فارسی اور جناب عربی پر تو اتنی کانڈ ہے جیسے سندھی بول رہا ہو اسی لئے وزیر اعظم سے خوب بنتی ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر ہمارے اس وزیر کی

کمرسی اپنی جگہ سے ٹس سے ٹس نہ ہونگی ---

لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نورانی وزیر جوش ملیح آبادی کا بہت گہرا "شام" کے وقت کا دوست ہے جو شش کی بیگم تو تر چکی ہے اس لئے اب گھڑی نہیں رکھی جاتی بلکہ گھڑا رکھا جاتا ہے ہمارا یہ "الحاج" وزیر اور جوش اسی گھڑے

پندرہ سال پہلے جب ہمارے پیرو مولانا بوٹھا اٹھا اور اٹلی کے لوگوں کے ساتھ
 اٹلی ڈنڈا کیسٹلنا تھا اس وقت جوش کے ایک نظم مکھی مکھی لوگوں کا کہنا ہے
 کہ نظم بکھنے وقت جوش کے ذہن میں ہمارا وہی مولوی تھا آؤ تو کونہم اس نظم
 کو ایک ساتھ پڑھیں اور اس نظم شہادت کو سمجھنے کی کوشش کریں نظم مانتوں
 ہے "مولوی"

- | | |
|--|--|
| ① پوئی اک مولوی سے گل ملاقات
شبیہ قبہ و تصویر ہنیر | ⑥ دھوکے فیض سے شاداب ڈرھی
خدا کے خوف سے چہرہ "گل تر" |
| ② وہی پوں کے جو فردوس میں ہیں
خدا کے فضل سے حوروں کے شوہر | ⑦ ادا میر کی سنا اچھو و کوا ہی
حدیثیں برزبان قرآن از ہر |
| ③ عمامہ بر سر ہموان در حیب
اٹنٹا پانچامہ دلق در ہر | ⑧ ارم کے مذکرے کس کس ترے سے
حصائی ریش سٹھی میں پیکٹر کر |
| ④ کٹ دماغ اور کو "نا گردن
نظم پر عرب قدر شد ہنو ہر | ⑨ مگر آنکھوں میں بیٹام نسیم
ریا کی چشکیں اللہ اکبر |
| ⑤ جہیں کا داغ اک دیگی پوئی رات
مگر کا پھر اک سٹھا سٹھند | |

اجبار ہا کر سے تڑی کرے کرے صرف اس کے فضل سے ہمارا مولانا آج سنا اہم
 وہ ہے کہ اس نظم مشوروں کے اخیر دیر اعظم چھوٹے نہیں کر پاتے ہمارے شہم عوامی
 لیڈر کا دماغ اس وقت تک کام ہی نہیں کرتا جب تک کانوں میں یہ آواز نہ
 پہنچے "وا کئی ادبچی بات کہدی آپ سے" تو دیکھا پڑے والے تم نے ہمارا وہ ہر
 مولانا تھے بڑی ذمہ دار ہیں کواپنے کامدھوں پراٹھانے ہوئے ہے اس کیسے جانتے
 ہو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یقیناً حاصل یہاں اگر پاکستان کی نشاۃ اللہ
 یہاں کے دربار میں پہنچائی ہے تو مولانا سے ادبچی ہستی نہ ملے گی کہ وہاں ہے کہ
 سند رہے اور ہے وقت ضرورت کام آوے

چوچماعت اسلامی دین

یوم اور دوپہی کو جماعت اسلامی کے مرکزی صدر نظام مذکورہ وکلہ کا ایک نوٹیشن
 ہوا تھا جس موضوع پاکستان میں اسلامی قانون کے لٹاؤ کیلئے عملی بنیاد پر مرتب
 کرنا تھا اس دوروز نوٹیشن کی متعدد نشستوں میں جماعت کے سلف اثر سے باہر کے
 ممتاز وکلہ اور دوسرے سیاسی وکتاب وکر سے تعلق رکھنے والے وکلہ نے بھی اظہار خیال کیا
 نوٹیشن کے پہلے دن کی آخری نشست میں بائی جماعت اسلامی مولانا مودودی نے
 اپنے خطاب میں جو کچھ کہا اس کے بعض حصے جہاں اپنی برحقیت اور دعوت فکر کے
 حامل تھے وہاں انہوں نے بائیان پاکستان کے بارے میں بعض ایسی باتیں اور
 ایسی زبانیں کہیں کہیں جن سے یہ تاثر لیا گیا کہ مولانا مودودی کے خیال
 میں وہ پاکستان میں اسلامی قانون کے لٹاؤ کے سلسلہ میں خالص نہیں تھے
 یہ تاثر اس قدر ناگوار تھا کہ نوٹیشن کے دوسرے دن کی کاروائی کے عین آغاز میں
 یہاں یحییٰ محمد کو یہ وضاحت کرنا پڑی کہ نوٹیشن کی رسمی آراء اور متفق علیہ صرف
 وہی باتیں ہیں جو قراردادوں کی صورت میں منظور کی گئیں ہیں یہاں یحییٰ محمد نے جماعت
 اسلامی پر وزیراعظم کی مکتبہ چینی کا جواب دیا وہاں مولانا مودودی کی جھٹکا پیش
 کرنے کے جوش میں یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں شخصیتوں نے بنایا ہے عدلہ
 اقبال (جنہوں نے آئین مملکت کا لٹاؤ دیا) مولانا مودودی (جنہوں نے نظریہ دیا) اور
 سرفراز خان (جنہوں نے پہلے دونوں حضرات کی سوچ کو عملی شکل دیا)

مولانا مودودی نے وکلہ کی نوٹیشن میں جو تمام بائیان پاکستان کو غیر خالص قرار
 دیا تھا وہ ایک بڑی مناسب اور خود بخود حقیقت اور عملی زیادتی تھی
 پاکستان میں اسلامی نظام کا محقق قائم نہ ہونا اور اسلامی قانون کے لٹاؤ کا
 شرمندہ تعبیر نہ ہونا اپنی جگہ ایک بہت بڑا المیہ ہے بہت بڑا خراب اور بہت
 چھوٹی جماعت اسلامی سمیت حیدر اہل پاکستان کی بہت بڑی مجموعی کوتاہی ہے
 عام قاعدہ اور معمول یہ ہے کہ بیرونی اور قابل احترام شخصیتوں کی بڑی خطاؤں
 اور فکری لغزشوں کا عیب جوئی کے ذریعہ نہیں ڈکھرائیں کیا جاتا بلکہ ان کی خوبیاں

جیسا کہ ہو کر پینٹی کی راہ پر چلے اور اپنے کام کرنے کی ضرورت ہو تو یہیں جماعت
 اسلامیہ کا اہلیہ یہ ہے کہ اس کے رکنا اور شر جان نہ صرف مولانا مودودی کا
 کی ہر بات کو صرف آخر سمجھتے ہیں جیسا کہ انہوں نے ان کی ذات اور
 کتابت پر ہر نوعیت کے اثر ارض اور کلمہ چینی کا نہ صرف جواب دینا
 بلکہ اسے غلط ثابت کرنا اپنے لئے لازمی ٹھہرا لیا ہے

۱۹۷۱ میں مولانا مودودی نے جماعت کے پیام کے بعد تحریک پاکستان کے زمانہ میں جو
 جیادت کا برائے انہیں ایک نوٹ لکھا تو کہہ سکتے ہیں تحریک پاکستان کی حمایت قرار
 نہیں دے سکتے جہاد کشمیر کے بارے میں جو انہوں نے کہا اس کو کوئی ان کی رائے کے بارے
 بطور فتویٰ استعمال کرے وہ اپنی جگہ مار چکے اور ان میں جماعت کے ضد و سطوات
 جماعت اسلامی عمر کے اعتبار سے اس مدد میں مسلم لیگ کے بعد دوسری پرانی جماعت
 ہے اسے قائم ہونے سے 35 سال ہوئے ہیں اگر اسے توجی سیاست میں کوئی مثبت حصہ
 لینا ہے تو پھر اس کے رکنا اور شر جانوں کو سیاسی مدبرین کی سی پالیج
 فتویٰ اور حوصلہ مند کا سے نام لینا ہوگا پاکستان بنانے والے صرف دو اشخاص
 ہیں ایک اقبالؒ اور دوسرے قائد اعظم

(منقول از کرلیٹیٹ بکیم جون ۱۹۷۶ ٹورنٹو)

کتبہ - ابو ذیشان

پاکستان اور نصف بوتل شراب

" پاکستان سے ہندوستان آئے والے مسافر اب اپنے ساتھ 250 روپیہ نقد لے
 سکیں گے یہ ہے انہیں صرف 20 روپے لائے کی اجازت تھی اور ساتھ ہی
 نسی رعایت یہ ہوئی ہے اور کہہ دیا اپنے ساتھ نصف بوتل شراب بھی لے سکیں گے "
 - پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اور وہاں سے سفر کرنے والے عموماً
 سرکاری سطح پر ہی ہوتے ہیں ان کو شراب لائے کی اجازت آخر کس طرح
 اور کس مصالح کی بناء پر دی گئی ہے ایک ایسے ممالک کے شہریوں کا اپنے سفر میں

قسط چھٹا دیر میں بیٹھا کاتب کا کلام لیا

میر "بشیر طاہر" - (جب تک سلام کر کے رکن قومی اسمبلی بنے ہیں) اتنے بلند مرتبہ ہوئے ہیں کہ خود کو "مہتر چترال" سے کم نہیں سمجھتے۔ اب تو وہ جاتے ہیں بھی سہانے سینے (وزارتے ٹائڈ) دیکھتے ہیں "مسلان" آگے دے دے اے احمدی تو "تیسلم" کو منہ نہیں لگاتے۔ یہیں اقتدار کا کوڑا اٹھا کر رکنیت قومی اسمبلی کا سہارے کر جب وہ اپنی برادری کے پاس جاتے ہیں تو فوراً "سراپ نظر" کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ "قریب نظر" میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں سامعین میں ہزاروں احمدی بیٹھے نظر آتے ہیں قواہ آڈیٹنس AUDIANCE سے زیادہ افراد پر مشتمل نہ ہو) تقریر کے ساتھ ہی ان کے کان بھینکے شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں کچھ اس قسم کے نعرے سنائی دیتے ہیں

"بشیر طاہر" - زندہ یاد - "یہ ہے طاہر" زندہ یاد = باطن خاثر HIRE

زندہ یاد - آٹھویں گھوڑو - زندہ یاد = بات و توہو - زندہ یاد

نہروں کی صدائے بازگشت سے وہ چونک اٹھتے ہیں۔ اور پھر مجمع حاضر - احمدی غائب
 ع : خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا "تین اس نفسیاتی پیڈری"
 سے قبل ان کی تقریر لمبے لمبے ڈب لہرائی اختیارے دفتر کی طرف روانہ ہو چکی تھی ہے
 جسمیں پہ ڈر سوتا ہے کہ - میں نے احمدیوں کے بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کیا ہے
 انہوں نے اپنے محفلوں میری ناچوٹی کی ہے - کون کہتا ہے کہ میں احمدیوں کا نمائندہ نہیں ہوں -
 پنجابی زبان میں (حاورہ) بعض دفعہ بڑی ہی زیادتی کرتا ہے - اتنا بھی کھینچتے ہیں
 سوتا چاہئے کسی زبان کو = شدہ اہل زبان اردو میں کہیں گے زمان نہ مان میں تیرا مہمان "
 اور اہل پنجاب پنجابی میں یوں کہتے ہیں "من نہ من تیں تیری رن" یہاں بھی معاملہ

اردوئے محلی سے تدر کر - وارث شاہ کے دیس والی پنجابی میں آئی ہے
 "القفل" اعلان کرتا ہے کہ میر بشیر طاہر نے ع - قسط چھٹا دیر میں بیٹھا کاتب کا کلام لیا

ہمارا نمائندہ ایسے تہذیبی - جہلہ - بھاری تو سب اس سلسلہ مکملہ طیبہ میں لسی ہوئی ہے
دریٹر لٹریچر لکھ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں اپنی کا نمائندہ ہوں۔ جو مجھے اپنا نمائندہ
نہیں مانتے۔ ڈیڑھ لکھ رہتے ہیں۔ میرے محرمی بدستور میرزا اسلام احمد قادریانی ہیں۔ مجھے تو
دلبرہ والوں سے اختلاف ہے۔ اب انصار سلاطین سے۔

حقیقت میرزا اسلام احمد قادریانی کا سب سے بڑا ادعا یہ تھا کہ میں فتنہ نبوت کا قائل۔ موصد
مومن اور قلمہ گو مسلمان ہوں اور لٹریچر طایر کا ادعا یہ ہے کہ۔ میں فتنہ نبوت کا مسترد
غیر مومن۔ غیر قلمہ گو۔ یہاں تک کہ غیر مسلم رتن (قومی) اسمبلی ہوں۔ تو یا وہ اپنے
محرمی کے عقیدے کو مانتے رہے تیار نہیں بلکہ جب! اور پھر نمائندگی بھی اس عقیدے
والوں کی۔ آسمان سے برا۔ کھجور میں آند گیا اور خرابی نمائندگی مل گئی۔ سنا ہے جب
لو میں جھلس رہے تھے اس پھولس سوکھ جاتا ہے اور پھیس بھوک بڑھتا لگ رہتی ہیں
تو ہمارے دیس کے گوالے اپنی ہرے رت کے "کھوپے" پہنا دیتے ہیں۔
اور پھیس بڑے حترے سے خیالی ہر یادوں میں منہ مارتی رطری کھانسی کو سہری لہری
کھری سمجھو چٹا کرتی ہیں۔ ہے تو یہ رطیفہ۔ لیکن ڈیڑھ لکھ رہتے ہیں جس کا
پہرہ وہ کبھی وہ ہرے رت کے "کھوپے" تھا کہ حقل میں آتے ہیں تو۔
اپنی چاروں طرف احمدی ہی نظر آتے ہیں۔ ویسے بھی ساونے اترھے کو آ رہے طرف
سبزہ نظر آتے "ما تو بیا" انتطار حسین "کی زبرد دو پیر" نظر آئے گی
حقت قاید اعظم قوم کے ایسے زبردستی کے نمائندے "کو کیا بڑے تھے۔ بو جھیں تو ہوں۔

پارٹیشن سے پہلے امراری اور نیشنلسٹ مسلمان بڑے تھے کہ۔ ہم کانگریس کے
پس قوردہ پر پلنے والے مسلمانوں کے بلا شرت غیرے (واحد) نمائندے ہیں۔
کہ کہ مسلم لیگ۔ قاید اعظم انہیں "شو بوٹے" کہتے تھے۔ اسی قسم کے بعض
نمائندے ان دنوں پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ جن کی ولادت میں "دایہ پیری"
کے ذرا لٹریچر "قوالی پارٹی" سرانجام دے رہی ہے۔ ہلقہ فاصلے دائرے میں آج قومی اسمبلی
کے ایسے نمائندے نے جنم لیا ہے۔ مل مکن احمدیوں کے نام پر صوبائی نمائندے جنم لیں
تے۔ وہ نمائندے کس سے ہوں گے۔ اس پارٹی کے جس نے انہیں جنم دیا
پہلے غسل ہوا۔۔۔۔۔ پھر حقل لپیٹ کر حقل میں رکھا

حوالا زانے جسم گھٹی دی شہد علی سوئی ۔ پھر ”ڈبہ پیر“ بنائے گئے
 ڈبے کا دودھ فیڈر میں لکڑی کی نیپل جندہ میں تھا دیا ۔ یہ ہے ہمارے تائزہ
 کا جسم دن ۔ اور ظاہر ہے ”غیر مسلم“ بچہ کے ختنہ کی تو ضرورت ہی نہیں
 اب چاروں طرف سے ”حبارک“ سلامت کی صدا اٹھ رہی ہے
 کہ عوامی پارٹی کی کوکھ سے ایدھے تائزہ نے جسم لیا ہے ۔
 مولانا علامہ غوث ہزاروی لاکھ کہیں کہ ۔ یہ کس کا تائزہ ہے احمدی تو مانے
 نہیں ۔ مگر کون سنتا ہے ۔ سیاست بر قویا سے قویا تر کرنے کا یہ تیر بہدف
 نسخہ کھلا ہے سو جھانکا ۔ عوامی دور ہے ۔ اور پھر موسم بر ششغال کی آمد
 عوامی تائزہ پیدایوں گے ان کی پیدائش کو کون روک سکتا ہے
 کوئی حد تصور بندی ان سے راستہ میں حاصل نہیں ہو سکتی ۔ البتہ وقفہ بہت طویل
 لگتا صوبائی تائزہ گان کا انتہاب موسم بر ششغال کی آمد تک ملتوی کر دیا گیا ہے
 ”شکر یہ ہفت روزہ لاہور“

”علامہ اقبال دین میں سند نہیں ہیں“

اہل حدیثوں کے رسالہ حدیث لاہور نے لکھا ہے کہ :-

علامہ اقبال بہت کچھ تھے لیکن کبھی کچھ نہیں تھے ۔ اس نے اس کا تعارف
 پیش کرتے ہوئے زیادہ سیالچہ سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ
 مرحوم ملت اسلامیہ کے کی عظیم دوات تو ضرور ہیں لیکن دین میں
 وہ سند یا حجتی نہیں ہیں (ماہنامہ حدیث لاہور ص ۱۳۹۶)

الفرقان = ان دنوں علامہ اقبال کے بارے میں جو سیالچہ بلکہ غلو سوراخے اس پر مد نظر
 یہ انتہاس سیالچہت ۔ لیکن علامہ اقبال اپنے شاعر ۔ فلسفی تھے ۔ در دین میں سند نہ تھے